
















**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGE ANLEITUNG
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MONTAGE AANWIJZINGEN
MONTAJ TAL MATI
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
انستركشنز انجومنا نونهاب
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
توجيهات / تعليمات**







MAX LOAD 100 KG




1**2**

3**4**


5**6****7**





9




10






11**12**

13




14




15**16**

17



18



**WARNING!
CORRECT ASSEMBLY IS ESSENTIAL.
MISASSEMBLED PRODUCTS FALL OUTSIDE THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER**

Thank you for your purchase of this product. Following the instructions in this manual will enable you to obtain maximum performance and complete your living space in style. Your product has been manufactured with advanced technology and quality management throughout every process stage. Each part of your furniture is produced of the superior quality materials.

ASSEMBLY

Assemble the furniture on a flat and smooth surface in order not to let any scratches on glass. To maximize the rigidity all connection points and screws should be fixed strongly.

HINTS FOR USAGE AND MAINTENANCE

We recommend you to place the heaviest equipment on the bottom shelf. The optimum method for cleaning is to simply wipe with a clean, lint free cloth using alcohol or pure water. Do not use synthetic cleaning chemicals.

Please retain this manual for future reference.

SUBJECT TO PRINTING ERRORS AND TECHNICAL AMENDMENTS**VORSICHT!
ACHTEN SIE DARAUF DASS DAS PRODUKT RICHTIG MONTIERT IST. FÜR FALSCH ODER
FEHLERHAFT MONTUERTE PRODUKTE LIEGT KEINE HAFTUNG DES HERSTELLERS VOR.**

Zunächst einmal möchten wir Ihnen vielmals danken, dass Sie sich für ein Produkt entschieden haben. Wenn Sie die in der Gebrauchsanleitung genannten Punkte beachten, werden Sie eine maximale Performanz des von Ihnen gekauften Produktes erreichen. Dieses Produkt wird Ihren Lebensstil zur Vollkommenheit bringen.

Dieses Produkt ist so hergestellt, dass es bei jeder Betriebsstufe den höchsten technischen Standart und den höchsten Qualitätsstandart bringt. Jedes Stück Ihres Mobiliars ist aus den besten Materialien hergestellt worden.

MONTAGE

Um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass das Produkt auf glatter Ebene montiert und aufgestellt wird. Um die Widerstandsfähigkeit des Produktes zu erhöhen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass alle Verbindungsstücke und Schrauben fest zugeschraubt sind.

GEBRAUCHSANLEITUNG UND PFLEGEANLEITUNG

Wir möchten Ihnen dringend empfehlen schwere Gegenstände auf der untersten Platte aufzustellen. Zur Reinigung empfehlen wir Ihnen ein Reinigungstuch zu verwenden, der keinen Staub hinterlässt und entweder leicht in Alkohol getupft ist oder mit sauberem Wasser befeuchtet ist. Achten Sie bitte darauf, dass das Reinigungstuch eher trocken als nass ist. Bitte verwenden Sie keinerlei synthetische und chemische Reinigungsmittel. Heben Sie diese Gebrauchs - und Pflegeanleitung für später auf. Wir behalten uns in dieser Gebrauchsanleitung das Recht vor, an dem Produkt technische Änderungen durchzuführen. Durchgeführte Änderungen müssen vorher nicht angekündigt werden. Es liegt keine Haftung für Druckfehler vor.

**AVERTISSEMENT !
UN MONTAGE CORRECT EST ESSENTIEL.
LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DU MAUVAS ASSEMBLAGE DU PRODUIT.**

Nous vous remercions de l'achat d'un produit. Suivre les consignes de ce manuel vous permettront d'obtenir les meilleures performances de votre meuble afin d'optimiser votre espace audio vidéo. Votre produit a été fabriqué grâce à une technologie avancée et à un contrôle de qualité à chaque étape de sa réalisation. Chaque élément de votre meuble a été produit avec des matériaux de grande qualité.

MONTAGE

Montez le meuble sur une surface plate et uniforme de façon à ne pas égratigner le verre. Pour optimiser la rigidité tous les points d'assemblage et les vis doivent être fortement fixés.

CONSEILS POUR L' USAGE ET LA MANUTENTION

Nous vous conseillons de placer l'équipement le plus lourd de votre système Audio Vidéo au niveau inférieur de votre meuble. Pour le nettoyage : utiliser simplement un chiffon humidifié d'alcool ou d'eau. N'utilisez pas produits chimiques synthétiques pour nettoyer.

S'il vous plaît, conservez ce manuel pour vos consultations futures.

SOUMIS AUX ERREURS DE PRESSE ET AUX AMENDEMENTS TECHNIQUES

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΚΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτό το πριόνι. Ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης θα έχετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και το σωστό αισθητικό αποτέλεσμα. Το πριόνι που αγοράστε έχει κατασκευασθεί με προηγμένες μεθόδους και με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής. Κάθε μέρος του έχει κατασκευασθεί με υλικά υψηλής ποιότητας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Χρησιμοποιείστε για τη συναρμολόγηση μιά επίπεδη και λεία επιφάνεια, έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανή γρατζουνιά.
- Γίνε να εξσφαλίσετε τη μέγιστη ακαμψία του συστήματος, όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι πρέπει να σφιχτούν καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Συνιστούμε να τοποθετήσετε το βαρύτερο μπχανήμα στο χαμηλότερο ράφι.
- Η καλύτερη μέθοδος καθαρισμού είναι απλά με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα εμποτισμένο σε οινόπνευμα ή νερό. Μη χρησιμοποιείτε συνθετικά χημικά καθαριστικά.

Παρακαλούμε κρατείστε αυτό το έντυπο και γιά μελλοντική αναφορά
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΆΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЕ УСТРОЙСТВА.

Благодарим Вас за покупку изделия. Следуя инструкциям в данном руководстве, вы сможете добиться максимальной эффективности изделия и внести в свою жизнь площадь оригинальный стиль. Ваше изделие изготовлено с помощью самых передовых технологий и системы управления качеством на каждой стадии производственного процесса. Каждая деталь вашей мебели изготовлена из материалов самого высокого качества.

СБОРКА

- Собирайте мебель на плоской гладкой поверхности таким образом, чтобы не поцарапать стекло.
- Чтобы добиться максимальной устойчивости, все соединяемые точки и болты следует сильно закреплять.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

- Рекомендуем расположить наиболее тяжелое оборудование на нижнюю полку.
- Оптимальный метод для чистки – простое вытиранье с помощью чистого, не содержащего пух куска ткани, увлажненной алкоголем или чистой водой. Не используйте синтетические чистящие химикаты.

Будьте добры, сохраните данное руководство для будущих справок.
МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО ОШИБКИ ПЕЧАТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

I

AVVERTENZA!

IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE. IL FABBRICANTE NON SARÀ RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO

Grazie per aver acquistato un prodotto. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale. Il vostro prodotto è frutto di tecnologia avanzata e di una gestione della qualità applicata a tutte le fasi del processo. Ogni pezzo del vostro mobile è fabbricato con materiali di prima qualità.

MONTAGGIO

- Montate il mobile su di una superficie piana e liscia per evitare di graffiare il vetro.
- Per garantire la massima rigidità, tutti i punti di connessione e le viti vanno fissati ben stretti.

CONSIGLI D'USO E MANUTENZIONE

- Si consiglia di riporre gli oggetti più pesanti sul piano di fondo.
- Il metodo migliore per pulire il prodotto è utilizzare un semplice panno pulito e senza filacci, con alcol o acqua. Non usare detergenti chimici sintetici.

Conservare il presente manuale per future consultazioni.

SALVO ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

E

AVISO IMPORTANTE!

UN MONTAJE CORRECTO ES FUNDAMENTAL UN MAL MONTAJE DEL MUEBLE DEJARÁ SIN EFECTO LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Gracias por su compra de un producto. Siguiendo las instrucciones de este manual usted conseguirá el máximo partido del mueble, y la mejor estética para su hogar. Su producto ha sido fabricado con avanzada tecnología y la máxima calidad en todos sus procesos de elaboración. Todos los elementos del mueble están hechos con la mejor calidad de materiales.

MONTAJE

Monte el mueble sobre una superficie plana y suave, para evitar así rayar los cristales. Para conseguir la mayor rigidez posible, las piezas y varillas roscadas deben ser fijadas fuertemente.

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Recomendamos colocar el componente más pesado del sistema en el estante inferior. La mejor forma para limpiar el mueble es, sencillamente, pasar un paño limpio y suave, empapado ligeramente en agua o alcohol sobre las superficies del mueble. No use nunca productos químicos. Por favor, conserve este manual para consultas futuras.

Conserve este manual para futuras consultas.

Salvo errores de impresión o modificaciones técnicas.

**WAARSCHUWING !
CORRECTE MONTAGE IS NOODZAKELIJK. INCORRECT GEMONTEERDE PRODUCTEN
VALLEN BUITEN DE VERANTWOORDELijkHEID VAN DE PRODUCENT**

Dank u voor het kopen van een product. Door het volgen van de instructies in deze handleiding zult u maximale prestaties verkrijgen en daarmee uw leef-ruimte in stijl voldeden. Uw product is met geavanceerde technologie en tijdens elke process stage met quality management geproduceerd. Elk onderdeel van uw meubilair is met de beste kwaliteit materialen geproduceerd.

MONTAGE

- Monteer het meubilair op een vlakke oppervlakte om eventuele krasen op het glas te vermijden.
- Om de starheid maximal te verkrijgen moeten alle verbindigen en alle schroeven stevig bevestigd worden.

AANWIJZING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

- We bevelen aan de zwaarste voorwerpen op de laagste plank te plaatsen.
- De beste manier om schoon te maken is simpelweg een schoon, pluksel vrije doek met alcohol of zuiver water te gebruiken. Gebruik geen synthetische schoonmaak chemicalen.

Bewaar alstblieft dit handboek voor toekomstige referentie.

MOGELIJKE DRUKFOUTEN EN TECHNISCHE AANPASSINGEN KUNNEN AANWEZIG ZIJN**! ATENȚIE****ASAMBLAREA CORECTA ESTE ESENTIALA. O ASAMBLARE NEPOTRIVITA DETERMINA
DETERIORAREA PRODUSELOR SI NU INTRA IN RESPONSABILITATEA FABRICANTULUI**

Va multumim ca ati cumparat produsul. Urmarind instructiunile din acest manual veti obtine performanta maxima si va veti amenaja spatiul locibil cu stil. Produsul a fost fabricat cu o tehnologie avansata si un management de calitate in fiecare stadiu de producere. Fiecare parte a produsului este fabricata din materiale de calitate superioara.

ASAMBLARE

- Asamblati produsul pe o suprafata plata si curate astfel incat sa nu se zgarie sticla.
- Ca sa maximizati rigiditatea, toate punctele de conectare si suruburile trebuie sa fie fixate strans.

SFATURI PENTRU FOLOSIRE SI CURATARE

- Va recomandam sa depozitati produsele mai grele pe sertarul de jos.
- Metoda optima de curatare este cu o carpa curata, care nu lasa scame inmisiata in alcool sau apa. Nu folositi produse de curatenie chimice.

Va rugam sa pastrati acest manual pentru o utilizare ulterioara.

توجهات/ تبلیمات**ملاحظة**

- 1/ التركيب الصحيح للمنتج هو الأساس لأدامة المنتج.
- 2/ التركيب الخاطئ يسقط حق المطالبة بالضمان .

هذا الدليل يوجهك الى كيفية استعمال المنتج.
لقد كتبنا موصفات كل منتج في الصنفة الخاصة به.
إن كل قطعة من منتجاتنا قد صنعت من مواد أصلية.

المواد الأولية

الكماليات : قضبان مقوية بنظم الاطارات الصغيرة كلها مصنوعة من المعادن والبلاستيك .

التركيب

كي لا تخشى المنتج ولا يتعرض للكسر ريكووها على ارض مستوية .
للحفاظة على المنتج أحکموا ربط البراغي و نقاط الوصل

ملاحظات عن الاستعمال

-وضع المواد الاكثر ثقلًا في اسفل طبق في المنضدة .
-لتقطيف اثکر نصاعة استخدمو مخلفات قلية الكحول وأقمشة لا تترك وراءها شوائب .

-لا تستخدموا مواد كيميائية للتقطيف المنضدة .

الحفاظ على الدليل للرجوع اليها وقت الحاجة .

دستور العمل نصب**!!! اخطار****نصب صحيح الزاميست**

کارخانه سازنده هیچ مسئولیتی در قبال نصب ثابت ندارست، بعده نمی کند.

از شما به خاطر خرید محصولات سنتوروس تشکر می کنیم، دنبال کردن دستورالعملهای زیر، شما را قادر به نصب بالاترین سطح کارآئی نموده و زیبایی فضای زندگیتان را کامل می نماییم.

محصولات سنتوروس با تکنولوژی پیشرفته و مدیریت کیفیت در تمام مراحل ساخت، تولید شده و تمام قطعات این محصول از با کیفیت ترین مواد موجود، تهیه شده‌اند.

اجزاء تشکیل مهدنه

ساختار: این محصول از آلمینیوم و شیشه قشره تشکیل شده است.

لوازم جانبی: سیستم جرخ زیر میز، میله، اتصالات پلاستیکی یا غازی.

نصب

- هنگام نصب، چهت جلوگیری از خش افتادن و سیله، آن را بر روی یک سطح صاف و نرم قرار دهید.

- برای بالا بردن سطح استحکام، مهه مقاطع اتصال و بیچهای باید سفت شوند.

تذکراتی مربوط استفاده و نحوه نگهداری

- توصیه ما این است که سنجکن-ترین و سیله را بر روی بلندی زیرین قرار دهید.

- مناسب نزدیک روش برای تمیز کردن، استفاده از پارچه پنبه‌ای نماید و بدون برز به همراه الکل یا آب تمیز می‌باشد، از مواد پاک کننده

شمیزیابی استفاده نکنید.

! ATENÇÃO

É ESSENCIAL UMA CORRECTA MONTAGEM.

MONTAGENS MAL EFECTUADAS RETIRAM TODA A RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR/DISTRIBUIDOR

Agradecemos o interesse pelos nossos produtos. Conseguirá obter a máxima performance e completar o seu espaço com estilo seguindo as intruções deste manual. O seu produto foi produzido com a mais avançada tecnologia e com qualidade em todas as etapas da produção. Todas as peças do seu produto são produzidos com matérias de alta qualidade.

ASSEMBLEIA

Monte o seu móvel numa superfície plana e macia para evitar riscos nos vidros. Para maximizar a estabilidade do seu móvel deverá apertar todos os parafusos de forma a que não fiquem com folgas.

DICAS PARA USO E MANUTENÇÃO

recomendamos que coloque os equipamentos mais pesados na parteira de baixo. Para limpar o seu móvel utilize um pano ou um papel usando apenas água ou álcool. Não utilize outros produtos químicos de limpeza.

Guarde este manual para futuros esclarecimentos.

Condições de Garantia

Upozornění!

Správná instalace je důležitá.

Za nevhodnou montáž nenesete výrobce ani distributor odpovědnost. Prosíme věnujte instalaci zvýšenou pozornost a pečlivě si prostudujte tento návod.

Děkujeme, že jste si zakoupil produkt řady. Instrukce obsažené v tomto návodu Vám umožní maximálně využít vlastnosti výrobku. Stolek je vyráběn moderními technologiemi s důrazem na kvalitu provedení v průběhu celého výrobního procesu. Každá část je vyrobena z jakostních materiálů.

Montáž

Stolek sestavujte podle přiloženého schématu na pevné, rovné a čisté podložce abyste zabránili poškrábání skla. Pro dosažení dobré stability stolku, pečlivě utáhněte všechny komponenty.

Rady pro použití a údržbu

Doporučujeme nejčížší přístroj umístit na horní sklo stolku Pro čištění používejte přípravky vhodné na sklo. Nepoužívejte jiné syntetické chemikálie, může dojít k poleptání skla nebo barvy. Prosíme uschověte tento návod pro možnou budoucí potřebu

Záruční podmínky

Výrobce si vyhrazuje tiskové chyby a technické změny

BRĪDINĀJUMS!

PAREIZĀ MONTĀŽA IR ĽOTI BŪTISKA. NEPAREIZI MONTĒTI PRIEKŠMETI VAIRS NAV RAŽOTĀJA ATBILDĪBA.

Paldies, ka iegādājāties produkta! Sekošana šīm instrukcijām ļaus Jums iegūt maksimālu sniegumu no šīs preces, kā arī Jūsu dzīvojamā telpa tiks aizpildīta ar stilu.

Jūsu produkts ir ražots ar pielāgotu tehnoloģiju un kvalitātes pārraudzību katrā ražošanas posmā. Katrā Jūsu produkta daja ir ražota no augstākās kvalitātes materiāliem.

MONTĀŽA

Montējet mēbeli uz plakanas, gludas virsmas, lai nesaskräpētu stiklu. Lai maksimizētu stingribu, visām savienojumu vietām un skrūvēm jābūt cieši nofiksētām.

PADOMI LIETOŠANAI UN SAGLABĀŠANAI

Iesakām smagāko aprīkojumu novietot apakšējā plauktā. Optimālākā metode tīrišanai ir vienkārši noslaučīt mēbeli ar tiru, nepūkojošu lupatiņu, izmantojot alkoholu vai tiru ūdeni. Netiriet ar sintētiskām tīrišanas ķimikālijām!

Lūdzu, saglabājiet šo instrukciju turpmākām atsauksmēm.

SASKĀNĀ AR DRUKAS KĻŪDĀM UN TEHNISKIEM GROZĪJUMIEM

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ostrzeżenie!

Prawidłowy montaż jest bardzo ważny. Za nieprawidłowy montaż odpowiedzialności nie ponosi ani dystrybutor ani producent. Proszę zwrócić uwagę przy instalacji, dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Dołączone instrukcje pozwalają na dokładne zapoznanie się z specyfikacją produktu. Stoliki są produkowane przy użyciu nowoczesnych technologii, ze szczególnym naciskiem na design i jakość w całym procesie produkcyjnym. Każda część jest wykonana z wysokiej jakości materiałów.

Montaż

Montaż należy wykonać według załączonego schematu, na stabilnym i równym podłożu, powierzchnia montażowa powinna być czysta aby uniknąć zarysowań szkła. Aby osiągnąć dobrą stabilność stołu należy dokładnie dokręcić wszystkie elementy.

Porady użytkowania i konserwacji

Zalecamy najcięższe urządzenie umieścić na górnym blacie stołu.

Do czyszczenia używać tylko produktów przeznaczonych do czyszczenia szkła. Nie stosować żadnych syntetycznych związków chemicznych, które mogą powodować usunięcie lakieru lub przebarwienia na szkle.

Przechowuj instrukcję w celu ewentualnego wykorzystania jej w przyszłości.

Warunki gwarancji

! HOIATUS!
VÄGA OLULINE ON TOODE ÕIGESTI KOKKU PANNA
TOOTJA EI VASTUTA, KUI TOODE ON VALESTI KOKKU PANDUD

Täname, et otssite toote. Selles kasutusjuhendis toodud juhiseid järgides saate toodet võimalikult hästi kasutada, ning oma elukeskkonna stiileks muuta. Toode on valmistatud täiustatud tehnoloogiaga ja kvaliteedijuhtimisega kõikides tootmisestappides. Kõik mööblidetailid on valmistatud väga kvaliteetsetest materjalidest.

KOKKUPANEK

Pange mööbel kokku lamedal ja siledal pinnal. Nii ei kriimusta te klaasi. Kõik kruvid tuleb tugevasti kinni keerata, et detailide ühenduskohad oleksid võimalikult jäigad.

NÄPUNÄITEID KASUTAMISEKS JA HOOLDUSEKS

Soovitame kõige raskemad esemed asetada alumisele riiulile. Kõige parem on toodet puhastada puhta ebemevaba lapiiga. Vajadusel võib seda niisutada puhta veega. Ärge kasutage puhastamiseks alkoholiiga sünteetilisi puhastusvahendeid.

Hoidke see juhend alles.

JUHISED EI PRUGI OLLA TÄIELIKUD JA TOODET VÖIDAKSE TEHNILISELT MUUTA

GARANTIITINGIMUSED

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ПРАВИЛНОТО СКЛОПУВАЊЕ Е НАЈВАЖНО. ВО СПРОТИВНО,
ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗА НАПРАВЕНите ОШТЕТУВАЊА.

Ви благодариме што го купивте овој производ. Следните инструкции во ова упатство ќе ви помогнат да добиете максимални перформанси и да го комплетирате својот животен простор во стил. Овој производ е произведен со напредна технологија и квалитетни материјали.

СКЛОПУВАЊЕ

Поставете го мебелот на стабилна и рамна и мека површина за да не се изгребе стаклото. За зголемување на носивоста и цврстината на мебелот, сите точки на поврзување и шрафови мора да се цврсто фиксирали.

СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ

Ние препорачуваме да ја поставите најтешката опрема на долната полица. Оптимален начин за чистење е користење на чиста крпа која ќе ја натопите во алкохол или вода. Не употребувајте синтетички средства за чистење.

Сочувјајте го ова упатство за идни консултации.

ПРЕДМЕТ НА ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕТХОДНА НАЈАВА.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ

AL
Vini re!
MONTIMI I RREGULLT ËSHTË THELBËSOR.
PRODUKTET E PA MONTUARA JANË JASHTË PËRGJEGJËSIVE TË PRODHUESIT.

Faleminderit që keni zgjedhur produktet. Per të patur performancë maksimale dhe për të plotësuar hapësirat tuaja me stil ndiqni instrukzionet e këtij manuali. Produktet janë prodhuar me teknologji të avancuar dhe duke kontrolluar cilësinë në çdo fazë të procesit. Çdo pjesë e produkteve tuaja është prodhuar me material të cilësisë maksimale.

MONTIMI

Bashkimi i pjesëve të bëhet mbi një siperfaqe të sheshtë e të lemuar për të mos gervishtur siperfaqet e xhamit. Te gjitha pjesët lidhëse dhe vidat duhet te fiksohen mirë për të patur qendrueshmëri më të madhe.

RREGULLA PER PERDORIMIN DHE MIRËMBAJTJEN

Ne rekomandojmë të vendosni pajisjet më të renda tek ndarjet e poshtme. Metoda optimale për pastrimin është përdorimi i një materiali te pambuktë me ujë të paster ose alkool. Mos përdorni solucione sintetike pastrimi. Ruajeni manualin edhe në të ardhmen!

KY MATERIAL ËSHTË SUBJEKT I GABIMEVE TË PRINTIMIT DHE AMENDAMENTEVE TEKNIKE.

KUSHTET E GARANCISË

DK
! ADVARSEL
Det er vigtigt at samle produktet korrekt.
Forkert sammensat produkt falder udenfor producentens ansvar

Tak for dit køb af et produkt. Ved at følge denne brugervejledning opnår du maksimalt udbytte af dit køb og bedring af din stue med stil. Dit produkt er blevet fremstillet med advanceret teknologi og kvalitets kontrol i hver eneste proces i fremstillings forløbet. Hver eneste del af dit møbel er produceret i de bedste materialer.

Samling af møblet

Sør for at samle dit møbel på en flad og blød overflade for ikke at forårsage ridser i glasset.

For at opnå bedst mulig styrke skal alle skruer spændes ordentlig fast .

TIPS TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler dig at placere det tungeste udstyr på den nederste hylde. Den optimale metode til rensning er simpelthen at tørre af med en ren, fnugfri klud med alkohol eller rent vand. Brug ikke syntetiske rengøringsmidler. Opbevar denne manual til fremtidig reference.

FORBEHOLD FOR TRYKFEJL OG TEKNISKE TILPASNINGER
GARANTIBETINGELSER

